

مستند تشخیص: میرے بچے کے فروغ اور نشونما کی پیمائش کرنا

COVID-19 عالمی وبا نے ہمارے چھوٹے بچوں کی نگہداشت کرنے اور ان کو تعلیم دینے کے طریقوں کو بہت حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ جیسے ہم اس تعلیمی سال میں آگے بڑھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ اپنے بچے کی سماجی - جذباتی اور تعلیمی ضروریات میں مدد کر رہے ہوں گے۔ آپ اپنے بچے کی تدریسی ٹیم کے ساتھ اشتراک کر کے ایک آلہ کار (ٹول) کا استعمال کر سکتے ہیں جو مستند تشخیص کہلاتا ہے تاکہ آپ اپنے بچے کی نشونما کے بارے میں مزید جان سکیں۔

مستند تشخیص کیا ہے؟

- مستند تشخیص ایک طریقہ (آلہ) ہے جس کا استعمال تدریسی ٹیم روزانہ ذیل سمجھنے کے لیے کرتی ہیں:
- بچے کیا جانتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔
- بچے کس طرح نشونما پا رہے ہیں۔
- وہ بچوں کے فروغ کی اعانت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔



مستند تشخیص کیسے کام کرتی ہے؟

گھر پر، آپ چیزوں کا روزانہ جائزہ لیتے ہیں۔ آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا آپ کے بچے کی طبیعت صبح اٹھنے کے وقت ٹھیک ہے آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے جذبات محسوس کرتے ہیں۔ آپ توجہ کرتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی چیزوں میں دلچسپی ہے۔ یہ مشاہدات آپ کو اپنے بچے کو اور یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ کس طرح آپ ان کی نشونما میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کے تدریسی ٹیم مستند تشخیص کو تقریباً ایسے ہی طریقہ سے استعمال کرتی ہے۔ جب تدریسی ٹیمیں بچوں کی تحقیق میں مدد کر رہی ہوتی ہیں، وہ دن بھر ان کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران مشاہدہ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں اور ان کی تعلیم پر نظر رکھنے کے لیے تصاویر لیتے رہتے ہیں۔

مستند تشخیص کی معلومات کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟

مستند تشخیص کو بچے کی سوچ، نشونما اور تعلیم کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اہل خانہ، اساتذہ اور پروگراموں کی مختلف طریقوں سے مدد کرتا ہے۔



- آپ مستند تشخیص کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں:
- یہ سمجھنا کہ آپ کا بچہ کن طریقوں سے بہترین سیکھتا ہے۔
- یہ سمجھنا کہ آپ کس طرح اپنے بچے کی تعلیم میں بہترین مدد کر سکتے ہیں۔
- اپنے بچے کی معلومات کا تبادلہ اپنے بچے کی تدریسی ٹیم کے ساتھ کریں۔



- تدریسی ٹیمیں مستند تشخیص کو ذیل کے لیے استعمال کر سکتی ہیں:
- آپ کے بچے کی قابلیتوں کا تعین کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کس طرح نشونما کے تسلسل میں انکی مدد کی جائے۔
- آپ کے بچے کی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کی بنیاد پر روزانہ کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنا اور مشورے دینا۔
- سال بھر تسلسل کے ساتھ اہل خانہ اور نگہداشت فراہم کنندگان سے رابطے میں رہنا۔



- پروگرامز مستند تشخیصات کو ذیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں:
- بچوں کی تعلیمی ضروریات کی اعانت کے لیے چیزیں منگوانا۔
- ایسے وسائل کی نشاندہی کرنا جن سے تمام بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کی جا سکیں۔

کن شعبوں میں میرے بچے کی تشخیص کی جائے گی؟
مستند تشخیصی آلہ کار ابتدائی تعلیم کے پانچ شعبہ جات کا جائزہ لیتے ہیں:

 تعلیم کی طرف رجحانات - بچے کس طرح تعلیمی تجربات میں مشغول ہوتے ہیں۔
یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ جس طریقے سے بچے تعلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے اثرات
انکی ترقی کے تمام شعبوں پر ہوتے ہیں۔

 سماجی اور جذباتی فروغ - بچے کس طرح تعلقات بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ
جذبات کو پہچانتے اور قابو پاتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں تاحیات ترقی اور تعلیم حاصل کرنے کے
لیے ضروری ہوتی ہیں۔

 زبان، خواندگی اور ابلاغ - بچے کس طرح سننے، سمجھنے اور زبان اور دیگر قابلیتوں



کو ابلاغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

 ادراک - صلاحیتیں اور تصورات جنہیں بچے اپنے ارد گرد کی دنیا کو منظم کرنے اور پہچاننے بشمول ریاضی، فن، سائنس اور معاشرتی
علوم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

 جسمانی نشوونما اور صحت - وہ صلاحیتیں اور قابلیتیں جن سے بچے حرکت کرنے کو فروغ دیتے ہیں اور خود کو اپنے ماحول میں
محفوظ رکھتے ہیں۔

تدریسی ٹیم اور نگہداشت فراہم کنندگان کے لیے یہ اہم ہے کہ ان تمام شعبوں کا مشاہدہ کریں تاکہ ہر بچے کو انفرادی مدد فراہم کی جا سکے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی عمر اور آپ کے پروگرام میں استعمال کیے جانے والے آلہ کار کی وجہ سے یہ شعبے ذرا مختلف ہوں۔

کس طرح آپ مستند تشخیص میں اپنے بچے کی تدریسی ٹیموں کے ساتھ اشتراک کر سکتے ہیں۔
آپ اپنے بچے کو سب سے بہتر جانتے ہیں! اپنے بچے کے اساتذہ کی ٹیم سے اکثر بات کرتے رہیں۔ مل کر کام کر کے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی
کہ آپ کے بچے کی تدریس اور نشوونما کے لیے درکار اہم ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔

- آپ اپنے بچے کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے بارے میں معلومات کا اشتراک ان کے استاد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ چاہیں، گھر پر اپنے وقت کے بارے میں ہاتھ سے لکھے ہوئے مختصر بیانات، اپنے بچے کے ساتھ کھیل کی تصاویر یا آپ کے بچے کی بنائی ہوئی تصاویر کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔
- آپ اپنے اساتذہ سے اپنے بچے کی نشوونما کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔
- اپنے بچے کے استاد سے مستند تشخیصات کے بارے میں معلوم کریں اور انکے خیالات کو کھلے دل سے سنیں۔
- ذیلی انعکاسی سوالات کے بارے میں غور کریں:
- میں اپنے بچے کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں تعلیم کو کس طرح نوٹس کرتا ہوں؟
- میں اپنے بچے کی تعلیم میں مدد کے لیے کس طرح اپنے بچے کی تدریسی ٹیم سے معلومات کا تبادلہ کر رہا ہوں؟

ہم تمام تعلیمی سال آپ کے بچے کی نشوونما میں مدد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شراکت کرنے کے متمنی ہیں!

اس کو آپ تک شعبہ برائے ابتدائی طفلی تعلیم کے ذریعے پہنچایا گیا ہے
ای میل: earlychildhood@schools.nyc.gov